

No. of Printed Pages : 12

1351 (NP)



رجسٹر نمبر
Register Number

--	--	--	--	--	--	--

PART - III

ECONOMICS / علم معاشیات

(Urdu & English Version / اردو اور انگریزی زبان)

[وقت 2.30 گھنٹے]

Time Allowed : 2.30 Hours]

[مارکس : 90]

[Maximum Marks : 90]

- ہدایات : (1) صاف چھپائی کے لیے سوالی پرچے کی جانچ کر لیجئے۔ اگر صفائی میں نقص ہو تو ہال کے نگران کو فوراً اس کی اطلاع دیں۔
(2) نیلی یا سیاہ روشنائی کا استعمال لکھنے اور خط کشید کرنے کے لیے اور ڈائی گرام اتارنے کے لیے پنسل کا استعمال کیجئے۔

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
(2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

PART - I / I۔ پارٹ

20x1=20

نوٹ : (i) سبھی سوالات کے جواب دیں۔

(ii) دیئے گئے چار متبادلات میں سے موزوں ترین جواب منتخب کیجئے۔ نتیجہ کوڈ اور اس کا متعلقہ جواب لکھئے۔

Note : (i) Answer **all** the questions.

(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[صفحہ الٹئے / Turn over]

1. قلت کی اصطلاح کا تعین کار مصنف ہے :

- (a) الفرید مارشل (b) لائیونیل رابنس
(c) آدم اسمتھ (d) سمونیل سن

The author of scarcity definition is :

- (a) Alfred Marshall (b) Lionel Robbins
(c) Adam Smith (d) Samuelson

2. روایتی معیشت ہے :

- (a) حاکماتی معیشت (b) مالیاتی معیشت
(c) کفالتی معیشت (d) بازاری معیشت

Traditional economy is a :

- (a) Command economy (b) Monetary economy
(c) Subsistence economy (d) Market economy

3. احتیاجات، آسائشات اور عیش و نشاط ہیں :

- (a) افادیت کی جماعت بندی
(b) طلب کی جماعت بندی
(c) آزاد سامان اور خدمات کی جماعت بندی
(d) ضرورتوں کی جماعت بندی

Necessaries, comforts and luxuries are :

- (a) Classification of utility
(b) Classification of demand
(c) Classification of free goods and services
(d) Classification of wants

4. صارف فاضل ہے :

- (a) طلب = فراہمی (b) طلب > فراہمی

(c) قوت کی قیمت - حقیقی قیمت (d) $MV_n = TV_n - TV_{n-1}$

Consumer surplus is :

- (a) Demand = Supply (b) Demand > Supply
(c) Potential Price - Actual Price (d) $MV_n = TV_n - TV_{n-1}$

5. جب حاشیائی افادیت صفر ہو جائے :

- (a) کل افادیت بڑھنا شروع ہوتی ہے
- (b) کل افادیت گھٹنا شروع ہوتی ہے
- (c) کل افادیت اقل ترین تک پہنچتی ہے
- (d) کل افادیت اعظم ترین تک پہنچتی ہے

When marginal utility becomes Zero :

- (a) The total utility starts increasing
- (b) The total utility starts decreasing
- (c) The total utility reaches the minimum
- (d) The total utility reaches the maximum

6. طلب میں اضافہ دکھایا جاتا ہے :

- (a) طلب قوس پر بلند ترین نقطہ
- (b) طلب قوس پر پست ترین نقطہ
- (c) طلب قوس میں وقفہ سے
- (d) اسی طلب قوس کے ساتھ ساتھ حرکت سے

Increase in demand is shown by :

- (a) The highest point on the demand curve
- (b) The lowest point on the demand curve
- (c) Shifts of the demand curve
- (d) Movement along the same demand curve

7. اگر طلب کی پارلک منفی ہو تو:

- (a) X اور Y اشیاء ضمنی ہیں۔
- (b) X اور Y اشیاء مکمل بدل ہیں۔
- (c) X اور Y اشیاء میں تعلق نہیں ہے۔
- (d) X اور Y اشیاء مکملہ ہیں۔

When cross elasticity of demand is negative :

- (a) X and Y goods are substitutes
- (b) X and Y goods are perfect substitutes
- (c) X and Y goods are not related
- (d) X and Y goods are complementary

8. نقطہ توازن پر :

- (a) صرف ایک قیمت چلن میں ہوگی
- (b) مقدار طلب = مقدار فراہمی
- (c) طلب کی قوس فراہمی قوس کی تنصیف کرتی ہے
- (d) مندرجہ بالا سبھی

At the point of equilibrium :

- (a) Only one price prevails
- (b) Quantity demanded = Quantity supplied
- (c) The demand curve intersects the supply curve
- (d) All the above

9. پیداوار کا مطلب ہے :

- (a) قدرِ مبادلہ
- (b) ٹکنالوجی
- (c) افادیت کا اتلاف
- (d) افادیت کی تخلیق

Production refers to :

- (a) Exchange value
- (b) Technology
- (c) Destruction of utility
- (d) Creation of utility

10. ایک کامیاب انترپرائز پرے نیروہ ہے جو :

- (a) پیداواری عوامل کے مختلف جوڑوں کا فیصلہ کرتا ہے۔
- (b) اقل ترین اجرت ادا کرتا ہے۔
- (c) نئے پن کو قبول کرتا ہے
- (d) خطرات کو نظر انداز کرتا ہے۔

A successful entrepreneur is one who :

- (a) Decides different combinations of factors of production
- (b) Pays the lowest wage
- (c) Accepts innovations
- (d) Avoids risks

11. اوسط متعین لاگت _____ کو تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

- (a) TVC/Q (b) AC/Q (c) TC/Q (d) TFC/Q

Average fixed cost is obtained by dividing :

- (a) TVC/Q (b) AC/Q (c) TC/Q (d) TFC/Q

12. _____ کو منصوبائی قوس کہا جاتا ہے۔

- (a) طویل المدتی اوسط لاگتی قوس (b) مختصر مدتی اوسط لاگتی قوس
(c) اوسط لاگتی قوس (d) حاشیائی لاگتی قوس

_____ is called the planning curve.

- (a) Long run average cost curve (b) Short run average cost curve
(c) Average cost curve (d) Marginal cost curve

13. کوئی فرم توازن حاصل کر سکتی ہے جب اس کا :

- (a) $MR=AR$ (b) $MR=AC$ (c) $MC=MR$ (d) $MC=AC$

A firm can achieve equilibrium when its :

- (a) $MR=AR$ (b) $MR=AC$ (c) $MC=MR$ (d) $MC=AC$

14. مکمل مسابقت کے تحت طلب کی قوس :

- (a) نیچے کی طرف ڈھلان (b) عموداً
(c) اوپر کی طرف ڈھلان بناتی ہے (d) افقی ہوتی ہے

Under perfect competition, the demand curve is :

- (a) Downward sloping (b) Vertical
(c) Upward sloping (d) Horizontal

15. پیداواری تفرق _____ کی نمایاں خصوصیت ہے۔

- (a) اجارہ دارانہ مسابقت
(b) ڈیوپولی
(c) مکمل مسابقت
(d) اجارہ داری

Product differentiation is the salient feature of :

- (a) Monopolistic competition (b) Duopoly
(c) Perfect competition (d) Monopoly

16. معاشیات کبریٰ کا مرکزی مسئلہ :

- (a) سود اور زر
(b) مالیاتی پالیسی اور زر پالیسی
(c) آمدنی اور روزگار
(d) قیمت اور برآمد

The central problem of Macro Economics is :

- (a) Interest and Money
(b) Monetary Policy and Fiscal Policy
(c) Income and Employment
(d) Price and Output

17. آمدنی کے تعین کے لئے سادہ نظریہ کی تشریح میں کے نیز نے استعمال کیا _____

- (a) پیداوار اور خرچ
(b) ضارب اور مسرع
(c) صرف اور سرمایہ کاری
(d) کل طلب اور کل فراہمی

To explain the simple theory of income determination, Keynes used _____.

- (a) Production and Expenditure
(b) Multiplier and accelerator
(c) Consumption and investment
(d) Aggregate demand and aggregate supply

18. صرف تفاعل _____ اور _____ کے درمیان تعلق کی تشریح کرتا ہے۔

- (a) آمدنی، بچت (b) خرچ، سرمایہ کاری
(c) صرف، آمدنی (d) خرچ، بچت

Consumption function explains the relationship between _____ and _____.

- (a) Income, Savings (b) Expenditure, Investment
(c) Consumption, Income (d) Expenditure, Savings

19. مالیاتی پالیسی پر نگراں ہے :

- (a) سنٹرل بینک (b) خانگی سیکٹر
(c) مرکزی سرکار (d) ریاستی حکومت

Monetary policy is controlled by :

- (a) Central Bank (b) Private Sector
(c) Central Government (d) State Government

20. صفر پر مبنی بجٹ میں ہر سال کو فرض کیا جاتا ہے :

- (a) نیا سال (b) تعلیمی سال
(c) اساسی سال (d) مالی سال

In zero based budget every year is considered as a :

- (a) New year (b) Academic year
(c) Base year (d) Financial year

پارٹ-II/ II - PART

7x2=14

کوئی سات سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 30 لازمی ہے۔

Answer **any seven** questions and question number 30 is **compulsory**.

21. الفریڈ مارشل کی معاشیات کی متعین کردہ تعریف لکھیے۔

State Alfred Marshall's definition of Economics.

22. ضرورتوں کی کیا وجوہات ہیں ؟

What are the causes of wants ?

23. طلب کی چمک کی کون سی قسمیں ہیں ؟

What are the types of elasticity of demand ?

24. بریک ایون پوائنٹ کیا ہے ؟

What is break even point ?

25. قیمت کے تفرق کے دو فرق کونسے ہیں ؟

What are the two conditions for price discrimination ?

26. مبادلہ کمائیاں کیا ہیں ؟

What is transfer earnings ?

27. نیم لگان کیا ہے ؟

What is quasi-rent ?

28. صرف کے لیے مختتم میلان کا فارمولا لکھیے۔

Give the formula for Marginal Propensity to Consume.

29. معیاری کریڈٹ کنٹرول کے طریقے کیا ہیں ؟

What are the instruments of quantitative credit control ?

30. پروفیسر سلگ مین کے مطابق محصول (ٹیکس) کی تعریف کیا ہے ؟

State the Definition of a tax According to Prof. Seligman.

پارٹ - III / III - PART

7x3=21

کوئی سات سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 40 لازمی ہے۔

Answer **any seven** questions and question number 40 is **compulsory**.

31. آدم اسمتھ کے دولت کی تعریف پر تنقیدوں کی جانچ کیجیے۔

Examine the criticisms against Adam Smith's wealth definition.

32. مخلوط معیشت کی خوبیوں کی تشریح کیجیے۔

Explain the merits of a mixed economy.

33. پیداواری امکانی قوس سے کیا مراد ہے ؟

What does a production possibility curve refer ?

34. گفن پیراڈاکس پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔

Write a short-note on Giffen Paradox.

35. مارکٹ کی معیاد میں متوازن قیمت کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے ؟

How is equilibrium price determined in the market period ?

36. انتری پری نیز کے افعال کیا ہیں ؟

What are the functions of entrepreneur ?

37. اجارہ داری کو کنٹرول کرنے کے طریقے کیا ہیں ؟

What are the methods of controlling monopoly ?

38. مختتم پیداواری نظریہ تقسیم کی تحدیدات کیا ہیں ؟

What are the limitations of Marginal Productivity Theory of Distribution ?

39. کے نیز کی سادہ آمدنی کا تعین کے نظریہ کے مفروضات کیا ہیں ؟

What are the assumptions of Keynesian theory of Simple Income Determination ?

40. بارٹر سسٹم میں حائل مشکلات کی تشریح کیجیے۔

Explain the difficulties of barter system.

پارٹ - IV / IV - PART

7x5=35

سبھی سوالات کے جواب دیجیے۔

Answer all the questions.

41. (a) اشتراکیت کی کوئی چار خصوصیات اور اس کی کوئی چار خوبیوں کی تشریح کیجیے۔

یا

(b) ایک ڈائی گرام کے ذریعہ قانون تقلیل افادیت بیان کرو۔

(a) Explain the features and any four merits of socialism.

OR

(b) Describe the Law of Diminishing Marginal Utility with a diagram.

42. (a) منحنی خط تجزیہ کے کیا مفروضات ہیں ؟ منحنی خط کا استعمال کرتے ہوئے بتائیے کہ صارف کا توازن کیا ہے ؟

یا

(b) طلب میں قیمت کے لچک کے پیمائشی نقطہ طریقے کی تفصیل سے تشریح کیجیے۔

(a) What are the assumptions of indifference curve analysis ? Explain consumer's equilibrium using indifference curve approach.

OR

(b) Explain the point method of measurement of price elasticity of demand in detail.

43. (a) قانون طلب بیان کیجیے۔ قانون طلب کی کیا استثنیات ہیں ؟

یا

(b) شکل کے ذریعہ قیمت توازن کے تعین کی تشریح کیجیے۔

(a) State the law of demand. What are the exceptions to the law of demand ?

OR

(b) Explain the determination of equilibrium price with a diagram.

44. (a) آئسو کوانٹ (ہم مقداریت) کیا ہیں؟ ان کے خواص بیان کرو۔

یا

(b) کسی فرم پر عاید ہونے والی مختلف لاگتوں کی توضیح کیجیے۔

(a) What are isoquants ? Describe their characteristics.

OR

(b) Explain various costs incurred by a firm.

45. (a) مکمل مسابقت کے تحت مختصر مدت میں قیمت اور برآمد کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے ؟

یا

(b) اجارہ دارانہ مسابقت کے تحت قیمت اور برآمد کی توضیح کیجیے۔

(a) How is price and output determined in the short-run under perfect competition ?

OR

(b) Explain the price and output determination under monopolistic competition.

46. (a) لگان کے رچرڈین تھیوری کا جائزہ لیجیے۔

یا

(b) جے۔ بی۔ سے کے قانون بازارات کی تنقیدی جانچ کیجیے۔

(a) Examine Ricardian theory of RENT.

OR

(b) Critically examine J.B. Say's Law of Markets.

47. (a) زر کی مقداری تھیوری بیان کیجیے۔

یا

(b) ملکی محاصل پالیسی کے کوئی پانچ مقاصد کی تشریح کیجیے۔

(a) Describe the quantity theory of money.

OR

(b) Explain any five of the objectives of fiscal policy.